

قُلْنَا مَا آذَىٰ عِبَادِنَا فِي وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ أَحَدًا (البقرہ)

مِنَ أَكْبَرِ الْكِبَرِ الْبَشَرِ بِاللَّهِ (بخاری)

دَقْرَانِ اَوْ اَحَادِيثِ صَحِيحِهِ وَنَه

# خَيْلُهُ عَقِيدِكُمْ وَاخْلَهُ

مؤلف

محمد جميل زينو

مدرس دار الحديث مکه مکرمه



اَيُّوبُ مَكْتَبَةُ

091-2550749

0306-8320100 محله جنگی پشاور

# جمله حقوق محفوظ دی

د کتاب نوم \_\_\_\_\_ خپله عقیده واخله

دمؤلف نوم \_\_\_\_\_ محمد جمیل زینو

مدرس دار الحدیث

مکه مکرمه.

تصحیح او کمپوزنگ \_\_\_\_\_ ابو سلمان حضرت محمد

سنه طباعت \_\_\_\_\_ رمضان: ۱۴۲۶ هـ

تعداد \_\_\_\_\_ ایک هزار نسجے

ناشر

ناشر

ایوب مکتبہ

091-2550749

0306-8320100 محلہ جنگی پشاور

## فہرست د مضامینو

صفحہ	مضمون
۳	د الله تعالى حق پہ بندگانو باندے
۹	د توحید قسمونہ او فائدے
۱۸	د عمل د قبلیدو شرطونہ
۲۱	غٹ شرک
۲۸	د غٹ شرک قسمونہ
۴۶	وروکے شرک
۵۰	وسیلہ اود شفاعت غوہنتنہ
۶۳	جہاد، دوستی او فیصلہ
۶۹	پہ قرآن او حدیث باندے عمل
۷۹	سنت او بدعت
۸۵	دعائے مستجاب

ناشر

ایوب مکتبہ

091-2550749

0306-8320100 محلہ جنگی پشاور

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

د اللہ تعالیٰ حق پہ بندگانو باندمے

سوال : مونہر اللہ خہ دپارہ پیدا کری یو ؟

جواب : مونہر اللہ دمے دپارہ پیدا کری یو چہ د

ہغہ عبادت وکرو، او ورسره ہیخ خیز شریک نہ

کرو. دلیل پہ دمے دا قول د اللہ تعالیٰ دمے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

[ذاریات : ۵۶].

ترجمہ : ما نہ دی پیدا کری جنات او انسانان مگر

ددمے دپارہ چہ زما عبادت او کری .

اودا قول د رسول اللہ ﷺ :

حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ  
شَيْئًا . متفق عليه .

ترجمہ : حق دالہ تعالیٰ پہ بندگانو دادے چہ دوی  
دالہ تعالیٰ عبادت او کری او اللہ سرہ ہیخ خیز شریک  
نہ کری .

سوال : عبادت خہ خیز دے ؟

جواب : عبادت یو داسے جامع نوم دے چہ ہغہ  
شامل دے ہر ہغہ قول او فعل تہ چہ دالہ تعالیٰ  
خوبن وی ، لکہ چغہ ، فریاد ، مونیخ ، ذبح وغیرہ . اللہ  
تعالیٰ فرمائی :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ .

[ الأنعام : ۱۴۴ ]

ترجمہ : اووایہ امے پیغمبرہ ! (صلی اللہ علیہ وسلم) بیشکہ

زما مونغ، زما قريانى، زما دژوند اود مرگ توله  
طريقه خاص الله لره دى .

رسول الله ﷺ فرمائی چه :

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا  
افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ .

(بخارى : ۹۶۳/۲)

يعنى : الله فرمائی : زما بنده زما نزديكت نه  
حاصلوى په هيخ خيز چه هغه ماته زيات محبوب  
وى، دهغه خيز نه چه كوم ما په ده باندې فرض  
كرې دى .

سوال : د الله تعالى عبادت خرنگ او كړو ؟

جواب : خرنگ چه مونږ ته الله تعالى اور رسول

الله ﷺ حكم كړې دى . الله تعالى فرمائی :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

(سورت محمد : ۳۳) .

ترجمہ : اے ایمان والو ! اطاعت دالہ تعالیٰ وکری  
او اطاعت درسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) او کری او خپل عملونہ  
مہ بریادوی .

اورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائی :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

ترجمہ : چاچہ خہ عمل او کرو اوپہ ہغہ عمل  
زمونہ حکم (طریقہ) نہ وہ نو ہغہ مردود (اونا  
مقبول) دے .

(مسلم : ۷۷/۲ ، بخاری : ۲۸۷/۱ ، واللفظ لہ) .

سوال : آیا دالہ تعالیٰ عبادت پہ امید او ویرہ

کول پکار دے ؟

جواب : آو، دالله تعالیٰ عبادت په ویره او امید

کول پکار دی . الله تعالیٰ دمؤمنانو صفت بیانوی :

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا.

[سجده : ۱۷].

ترجمه : رابلی خپل رب لره په ویره او امید سره .

اورسول الله ﷺ فرمائی :

أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ

ترجمه : د الله نه جنت غواړم او الله پورم د اور نه

پناه نیسم .

(صحیح ابوداود : ۱۳/۱ ، بلفظ : سل الله الجنة

وتعوذ به من النار).

سوال : په عبادت کښه احسان څه شی دم ؟

جواب : احسان په عبادت کښه د الله تعالیٰ

د حقونو خیال ساتل دی . الله تعالیٰ فرمائی :

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلَبُكَ فِي  
السَّاجِدِينَ

[الشعراء: ۲۱۹، ۲۲۰].

ترجمہ: ہرگز اللہ چہ وینی تالرہ کلہ چہ تہ (دشپہ  
پاخے) او وینی گر خیدل را گر خیدل ستا پہ سجدہ  
کو نکو کبے .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

إِلْحْسَانٌ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ  
تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .  
(مسلم: ۲۹/۱).

ترجمہ: احسان (یعنی پہ عبادت کبے بنیگرہ)  
دادی چہ تہ د اللہ تعالی داسے عبادت او کرے گویا کہ  
تہ اللہ وینے، او کہ تہ نے نہ وینے نو اللہ خوتا وینی .



## د توحيد قسمونه او فائدم

سوال : الله تعالى رسولان څه دپاره ليرلى دى ؟

جواب : الله تعالى رسولان خلقو لره دالله بندگى

ته رابللو اود الله نه د شريك نفي كولو دپاره ليرلى

دى . الله تعالى فرمائى :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .

ترجمه : مونږ په هرامت كې رسولان ليرلى دى

دې دپاره چه دوى خلقو ته اووائى چه ديو الله تعالى

عبادت او كړى اود طاغوت نه لرې شى .

طاغوت : هغه شيطان دې چه هغه دغير الله

عبادت ته مخلوق رابلى .

رسول الله ﷺ فرمائى :

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ .. وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

ترجمہ: انبیاء سرہ رونرہ دی او دوی دین یو دے .

(بخاری: ۱/۴۹۰، مسلم: ۲/۲۶۵).

سوال: توحید ربوبیت خہ خیز دے؟

جواب: اللہ تعالیٰ پہ خپلو افعالو (کارونو)

کبے یو کنرل، لکہ پیدا کولو، تدبیر کولو وغیرہ

کبے .

اللہ تعالیٰ فرمائی:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[فاتحہ: ۱].

ترجمہ: تہول صفتونہ خاص ہغہ اللہ لرہ دی چہ

پالونکے دتہولو مخلوقاتو دے .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ: اے اللہ! تہ پالونکے د اسمانونو اود زمکے  
تے .

(متفق علیہ: بخاری: ۹۳۹/۲، مسلم:

۲۶۲/۱).

سوال: توحید الوہیت خہ خیز دیے؟

جواب: یہ عباداتو کبے اللہ تعالیٰ یو گنرل،

لکہ بلنہ، ذبح او نذر.

اللہ تعالیٰ فرمائی:

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ.

[البقرہ: ۱۶۳].

ترجمہ: نشتہ لائق دعبادت (حاجت پورہ کونکے

مشکلات لرے کونکے) مگر یو اللہ دیے چہ ببنونکے

مہریان دیے.

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ.

(متفق عليه).

ترجمہ: پکار دی چہ دتولو نہ رومبنی ہغہ خبرہ

چہ تہ ہغہ تہ خلق رابلی شہادت وی پہ دے خبرہ چہ

نشہ لائق دہیخ قسم عبادت سیوا داللہ نہ.

او پہ روایت دبخاری کنبے دی چہ:

إِلَى أَنْ يُؤْحَدُوا اللَّهَ

ترجمہ: تہ بہ ئے دے خبرے تہ رابلی چہ یو او گنری

اللہ لرہ.

سوال: پہ صفتونو او نومونو داللہ کنبس توحید

خہ دے؟

جواب: اللہ تعالیٰ لرہ ہغہ صفات ثابتول چہ پہ

کوم باندے اللہ تعالیٰ پہ خپل کتاب کبں دخپل خان  
 صفت کرے دے، یا رسول اللہ ﷺ پہ صحیح  
 احادیثو کبں دالله صفت بیان کرے دے، اودغہ  
 صفت پہ خپل حقیقی معنی باندے مبنی، بغیر  
 دتاویل کولو اود تفویض کولو اود مثال بیانولو اود  
 معطل پرینوڈلو نہ، لکہ صفت داستواء پہ عرش  
 شو، یا نزول دالله، یا لاس دالله یا داسے نور صفات چہ  
 دالله دشان سرہ خرنگ لائق وی .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

[ الشوری : ۱۰ ] .

نشہ دالله تعالیٰ غوندے ہیخ خیز اودے  
 اوریدونکے لیدونکے دے .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

يُنزِلُ رَبُّنَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا

ترجمہ: راکوزیری اللہ تعالیٰ ہرہ شپہ دمے نزدی  
آسمان تہ۔

(مسلم: ۲۵۸/۲، بخاری: ۱۵۳/۱)۔

یعنی: راکوزیری پہ داسے کوزیدو سرہ چہ ہغہ  
داللہ دجلالت سرہ لائق وی اود مخلوق دکوزیدو سرہ  
مشابہ نہ وی۔

(تفویض: دمے تہ وائی چہ مونر ددمے لفظ پہ  
لغوی معنی باندیم نہ پوہیرو، ددمے لفظ معنی اللہ  
تہ سپارو، دابہ نہ کوی بلکہ ددمے الفاظو لغوی  
معنی بہ کوی او کیفیت بہ ئے اللہ تہ سپاری)۔

سوال: اللہ تعالیٰ چرتہ دمے؟

جواب: پہ اسمان کبن دعرش دپاسہ دمے۔ اللہ

تعالیٰ فرمائی:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

[طہ: ۵].

ترجمہ: رحمن ذات پور تہ شویدمے پہ عرش

باندیمے .

استوی: پہ معنی د (علا وارتفع) سرہ دیمے، یعنی

بلند او اوچت شویدمے .

(بخاری: ۱۱۰۳/۲، عن أبي العالیہ ومجاهد).

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا .. فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ .

ترجمہ: اللہ تعالیٰ لیکلے دیمے یو لیک او هغه دالله

سرہ دعرش دپاسہ دیمے .

متفق علیہ: بخاری: ۱۲۰۷/۲، مسلم:

(۳۵۶/۲).

سوال: آیا اللہ مونر سرہ دیمے؟

جواب : آو، الله تعالى دلیدو اود اوریدو اود علم  
 پہ لحاظ سره مونږ سره دے . الله تعالى فرمائی :  
 لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى -  
 (طه : ۴۹) .

ترجمہ : الله تعالى او فرمائی : مہ ویریری زہ تاسو  
 سره یم اورم او وینم .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :  
 إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ .  
 (مسلم : ۳۴۶/۲) .

ترجمہ : بیشک تاسو رابلی اوریدونکے او نزدی  
 ذات، چہ تاسو سره دے (دعلم پہ لحاظ سره) .

سوال : دتوحید خہ فائدے دی ؟

جواب : دتوحید فائدے دادی چہ موحد بہ پہ  
 آخرت کنبے دالله دعذاب نہ پہ امن کنبس وی . دُنیا

کبن به هدايت يافته وى او گناھونه به ئے ورثېرى .

الله تعالى فرمائی :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ  
أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ - الأنعام : ۸۳ .

ترجمه : کومو کسانوا چه ايمان راوريدے او خپل

ايمانونه ئے په شرك نه دى گډه كړى دغه كسان هم

دوى له امن دے او هم دوى په هدايت دى .

دلته ظلم په معنى د شرك سره دے .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ

بِهِ شَيْئًا .

ترجمه : دبندگانو حق په الله باندي دادے چه

عذاب ورنكړى هغه چاته چه شرك نه كوى الله سره

دهيخ خيز . (متفق عليه، وقد مرتخرجه) .

## د عمل د قبلیدو شرطونه

سوال: د عمل قبلیدو دپاره څه شرطونه دي؟

جواب: الله تعالى په نزد باندې د عمل قبلیدو

دپاره درې شرطونه دي:

۱ - په الله تعالى ایمان راوړل او دهغه توحید

منل.

الله تعالى فرمائی:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ  
لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.

[الكهف: ۱۰۷].

ترجمه: بیشکه هغه کسان چه هغوی ایمان

راوړې دې او نیک عمل ئې کړې دې هغوی دپاره

جنت الفردوس میلمستیا ده.

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ (رواہ مسلم) .

ترجمہ : اووایہ چہ ما پہ اللہ ایمان راوریدمے ، او بیا

دغہ خبرہ تینگہ اونیسہ .

۲ - اخلاص : اخلاص ہغہ عمل تہ وائی چہ

ہغہ کبن ریا او شہرت غرض نہ وی . اللہ تعالیٰ

فرمائی :

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ .

[ الزمر : ۲ ] .

ترجمہ : پس عبادت کوہ داللہ پہ داسے حالت کبنے

چہ خالص کوونکے ئے ہغہ لره دین .

۳ - چہ عمل در رسول اللہ ﷺ دقول او فعل

مطابق وی .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا .

[الحشر: ۸] .

ترجمہ: کوم خیز چہ تاسو تہ پیغمبر (صلی اللہ  
درکوی ہغہ اخلیٰ (عمل پرے کوی) او کوم خیز نہ  
چہ تاسو منع کری دہغے نہ منع کیبری .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

(رواہ مسلم، وقد مرتخریجہ) .

ترجمہ: چاچہ خہ عمل او کرو او پہ ہغہ باندمے  
زمونر قول او فعل نہ وو (زمونر پہ طریقہ نہ وو نو)  
ہغہ مردود دے .



## غت شرك

سوال : دالله په نزد لوئے گناه څه شے دے ؟

جواب : دالله تعالیٰ په نزد لوئے گناه شرك دے .

دلیل په دے باندے دالله تعالیٰ دا قول دے چه :

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ  
عَظِيمٌ .

[ لقمان : ۱۳ ] .

ترجمه : اے زویه ! دالله سره شرك مه كوه ځكه

چه بیشكه شرك لوئے ظلم دے .

اوكله چه د رسول الله ﷺ نه تپوس اوشو چه

كومه گناه ډیره لویه ده، نو وے فرمائیل :

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ .

ترجمه : دا چه ته دالله سره بل څوك شريك

او گنہگارے حال دادے چہ تہ ہغہ پیدا کرے ئے .

(متفق علیہ : بخاری : ۶۴۳۰/۲ ، ومسلم :

۶۳/۱) .

سوال : شرك اكبر (غت شرك) خہ شے دے ؟

جواب : شرك اكبر (غت شرك) دغير الله عبادت

كولو تہ وائی ، مثلا الله نہ سیوا بل چاتہ چغہ وھل ،

یا مرویا ژوندوتہ چہ غائب وی چغہ وھل .

الله تعالی فرمائی :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .

[النساء : ۳۶] .

ترجمہ : عبادت دیو الله او کروی او الله سرہ ہیخ شے

مہ شریکوی .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ .

ترجمہ: پہ غتو گناہونو کبئں ڊیره لویه گناہ الله

سرہ شرك كول دى .

(بخارى : ۳۶۲/۱) .

سوال : په دے امت کبئں شرك موجود دے ؟

جواب : آو، په دے امت کبئں شرك موجود دے،

الله تعالى فرمائی :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ .

[يوسف : ۱۰۷] .

ترجمہ: ڊير دخلقو نه ايمان نه راوړی په الله باندے

مگر دوی (سرہ ايمان راوړلو نه) مشرکان دى .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي

بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ .

(صحيح الترمذى : ۲۴۵/۲) .

ترجمہ: قیامت بہ نہ قائمی پری تردی چہ زما  
 دامت قبائل مشرکانو سرہ پیوست شی، او تردی چہ  
 دبتانو عبادت او کرے شی۔

سوال: مرو تہ یا غائبو ژوندوتہ د مصیبت پہ  
 وخت کنب چغے وھلو او فریاد کولو خہ حکم دی؟  
 جواب: مرو یا غائبو ژوندوتہ چغے وھل لوئے  
 شرک دی۔

اللہ تعالیٰ فرمائی:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا  
 يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

[یونس: ۱۰۶].

ترجمہ: اللہ نہ سیوا داسے شی تہ چغہ مہ وھہ چہ  
 ہغہ درتہ نہ نفع رسولے شی اونہ ضرر، کہ دا کار دی  
 اوکرو نو تہ بہ پہ دغہ وخت کنبے دظالمانو نہ شی۔

یعنی دمسرکانو نہ بہ شے .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی چہ :

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ  
النَّارَ .

(رواہ البخاری : ۶۴۶/۲) .

ترجمہ : خوك چہ پہ داسے حالت کنبے مہ شو چہ

دہ اللہ نہ سیوا بل چاتہ دمصبیت پہ وخت کنبے فریاد

کولو نو دے بہ جہنم تہ حی .

سوال : چغہ او فریاد عبادت دے ؟

جواب : آو، چغہ او فریاد کول عبادت دے، اللہ

تعالی فرمائی :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِينَ .

[الغافر: ۶۳].

ترجمہ: ستار ب فرمائیلى دى چه مانه دعا  
غواړئ زه به ئے قبلوم، بيشكه هغه خلق چه زما  
دبندگى نه ځان لوئے گنړى زردى چه ذليله به جهنم  
ته ننوځى.

اور رسول الله ﷺ فرمائی :  
الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

(الترمذی: ۱۳۷/۲، وقال: حسن صحيح).

ترجمہ: عبادت هم دغه چغه فریاد دے.

سوال: مړى چغه آوری؟

جواب: نه، مړى چغه نه آوری. الله تعالى

فرمائی

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى.

[النمل: ۸۲].

ترجمہ: بیشکہ تہ مرو تہ نشے اورولے .

او اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ .

[الفاطر: ۲۱] .

ترجمہ: نہ تے تہ اورونکے ہغہ چاتہ چہ پہ قبرونو

کبنے دی .



## د غټ شړك قسمونه

سوال: مړو ته او غائبو ته فریاد کول جائز دی؟

جواب: نه، الله تعالیٰ فرمائی:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا  
وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ  
أَيَّانَ يُعْثُونَ.

[النحل: ۲۱].

ترجمه: کومو کسان چه دوی دالله تعالیٰ نه سیوا  
رابلی نو هغوی هیخ خیز نه شی پیدا کولے حال  
دادم چه دوی پیدا کرے شوی دی، دوی مړه دی  
ژوندی نه دی، دوی ته دا هم پته نشته چه دوی به  
کله راپورته کولے شی.

دغہ شان اللہ تعالیٰ فرمائی :  
 اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ  
 [الأنفال : ۹].

ترجمہ : کلہ چہ تاسو خپل رب تہ فریاد کولو نو  
 قبول ئے کرہ تاسو لرہ .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :  
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ .  
 (حسن، رواہ الترمذی : ۲۱۱/۲).

ترجمہ : امے ژوندی او تدبیر کونکے ذاتہ ! ستاد  
 رحمت پہ واسطہ سرہ تاتہ فریاد کوم .

سوال : اللہ تعالیٰ نہ سیوا بل چانہ مدد غوہنتل  
 جائز دی ؟

جواب : نہ، اللہ تعالیٰ فرمائی :  
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .

[ الفاتحه : ۴ ] .

ترجمہ : خاص ستا عبادت کوؤ او خاص تانه مدد

غوارو .

اور سول الله ﷺ فرمائی :

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ

بِاللَّهِ .

(الترمذی، وقال : حسن صحيح : ۳۴۵/۲) .

ترجمہ : کله چه سوال کومے نو د الله نه سوال کوه،

او کله چه امداد غوارمے نو د الله تعالی نه مدد غواره .

سوال : آیا در ژوندو نه امداد غوبنتے شو ؟

جواب : آو، په هغه خیزونو کبس چه ژوندی په

هغه قدرت لری، حکه چه الله تعالی فرمائی :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى .

[ المائده : ۳ ] .

ترجمہ: یو بل سرہ مدد او کړی دنیکی اود تقوی  
په کارونو کښی.

اور رسول الله ﷺ فرمائی:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ  
أَخِيهِ.

(رواه مسلم: ۳۴۵/۲).

ترجمہ: الله تعالى دبنده په مدد کښی وی ترڅو  
چه بنده دخپل رور په مدد کښی وی.

سوال: الله نه سیوا دبل چا په نوم نذر منل روا  
دی

جواب: دالله نه سیوا دبل چا په نوم نذر  
(منخته) منل نه ده روا.

الله تعالى فرمائی:

رَبِّ اِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا.

[ آل عمران : ۳۰ ] .

ترجمہ : اے ربہ ! ما نذر کرہ تا دیارہ ہغہ خہ چہ  
زما پہ خیتہ کنس دی آزاد کرے شوے .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ  
يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ .

ترجمہ : چاچہ منختہ او کرہ چہ زہ بہ د اللہ حکم  
منم نو فرمان برداری دے او کپی، او کہ چا نذر او کرو  
چہ زہ بہ د اللہ تعالیٰ نافرمانی کوم نو نافرمانی دے  
نہ کوی .

(رواہ البخاری : ۹۹۱/۲) .

سوال : د اللہ نہ سیوا دبل چا پہ نامہ حلالہ کول  
جائز دی ؟

جواب : نہ، د اللہ نہ سیوا دبل چا پہ نامہ حلالہ

کول جائز نہ دی .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ .

[الکوثر : ۲] .

ترجمہ : پس خاص خپل رب دپارہ مونخ کوه او

حلالہ کوه .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ .

(رواہ مسلم : ۱۶۱/۲) .

ترجمہ : د اللہ تعالیٰ لعنت دے وی پہ هغه چا

باندمی چه د اللہ دنوم نہ سیوا ذبل چا پہ نوم ذبح

(حلالہ) کوی .

سوال : قبرونو والو تعظیم دپارہ دقبر نہ طواف

جائز دے ؟

جواب: نہ ، طواف بہ صرف دخانہ کعبہ کوی .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

[ الحج : ۳۰ ] .

ترجمہ: پکار دی چہ طواف اوکری دزور کور

(چہ خانہ کعبہ دہ) .

اورسول اللہ فرمائی :

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ

كَعْتَقِ رَقَبَةٍ .

(صحیح رواہ ابن ماجہ : ۲۱۸) .

ترجمہ: چاچہ اووہ چکرہ طواف دبیت اللہ اوکرو

اودوہ رکعتہ مونخ ئے اوکرو نو دومرہ ثواب ئے اوشو

لکہ چہ یو غلام ئے آزاد کرے وی .

سوال: دجادو خہ حکم دیے؟

جواب : جادو کفر دیم، الله تعالی فرمائی :  
 وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  
 السِّحْرَ.

[البقره: ۹۶].

ترجمہ : لیکن شیطانان کافران شویدی چہ بنائی  
 خلقوتہ سحر او جادو.

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ : الشِّرْكَ بِاللَّهِ  
 وَالسِّحْرِ.

ترجمہ : حآن اوساتیء داووه هلا کوونکو خیزونو  
 نہ چہ یو پہ کنبے الله سره شرك کول دی او بل جادو  
 کول دی.

(رواه مسلم : ۶۴/۱).

سوال : آیا دنجومی اود فال گر خبریے رشتینی

گنہگار دی؟ او آیا دویٰ پہ غیبو خبر دی؟

جواب: نہ، ددویٰ خبرے بہ رشتینے نہ گنہگاری۔

اللہ تعالیٰ فرمائی:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ

إِلَّا اللَّهُ.

[النمل: ۶۵].

ترجمہ: اووایہ! چہ نہ پوہیری پہ غیبو باندمے

سیواد اللہ نہ ہغہ خوک چہ پہ آسمانوںو کبے دی او

نہ ہغہ خوک چہ پہ زمکہ دی۔

اورسول اللہ ﷺ فرمائی:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ

كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ .

(صحیح رواہ احمد: ۴۲۹/۲).

ترجمہ: خوک چہ نجومی یا فالگرتہ ورغے اود

هغه وینائے رشتینے او گنرلہ نو ده کفر او کړو په هغه  
 څه چه نازل شویدم په محمد ﷺ باندې .

سوال : په غیبو څوک پوهیږی ؟

جواب : نه ، په غیبو هیڅوک نه پوهیږی .

هاؤ ، چالره چه الله تعالی په غیبو باندې خبر کړی نو  
 هغه بیا غیب پاته نشی . الله تعالی فرمائی :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ  
 ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ .

[ الجن : ۲۶ ، ۲۷ ] .

ترجمه : پوهیدونکې دې په غیبو باندې نو دخپل

غیبو نه څوک نه خبروی ، مگر چالره چه غوره کړی

د رسول نه .

اورسول الله ﷺ فرمائی :

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ .

(حسن رواہ الطبرانی).

ترجمہ: دالہ تعالیٰ نہ سیوا بل ہیخوک پہ غیبو

باندے نہ پوہیری.

سوال: آیا جوہر والی او شفاء دپارہ پہ گوتہ کنب

خہ کری یا پہ غارہ کنب خہ تارا چول جائز دی؟

جواب: نہ، بالکل نہ. اللہ تعالیٰ فرمائی:

وَإِنْ يَّمْسُكِ اللَّهُ بَصُرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا

هُوَ.

[سورہ الأنعام: ۱۷، یونس: ۱۰۷].

ترجمہ: کہ اللہ درتہ ضرر اور سوی نو دہغے لری

کوونکے نشتہ سیوا ددغہ اللہ نہ.

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

أَمَّا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، إِنْبَدَهَا عَنْكَ

فَإِنَّكَ لَوَمِتٌ مَّا أَفْلَحْتَ أَبَدًا.

( صحیح رواہ الحاکم و صححہ ووافقہ الذہبی ) .

ترجمہ : خبردار ! دا (تار کپڑی وغیرہ) نہ زیاتوی تا  
لرہ سیوا دسپک والی او کمزور والی نہ نو دغہ شے  
خانہ نہ او غورزوہ، حُککہ چہ کہ تہ پہ دے حال مہر  
شے نو ہیخ کلہ بہ تہ خلاصے اونہ مو مے .

سوال : آیا گنجکہ یا غمے وغیرہ دمرض او نظر  
لرے کولو دپارہ پہ غارہ اچول جائز دی ؟

جواب : نہ ! اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَإِنْ يَّمْسُكْ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا  
هُوَ .

[ سورہ الأنعام : ۱۷ ، یونس : ۱۰۷ ] .

ترجمہ : کہ اللہ درتہ ضرر اورسوی نو دغہ لرے  
کوونکے نشتہ سیوا ددغہ اللہ نہ .

اورسول اللہ ﷺ فرمائی :

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ .

(صحیح رواہ احمد) .

ترجمہ : چاچہ تمیمہ (تعویذ) زور پند کرو نو

بیشکہ چہ ہغہ شرک او کرہ .

تمیمہ : گنجکہ، غمے، تعویذ، تار، کری و غیرہ

تہ وائی چہ د نظر ماتی دیارہ ئے خلق ماشومانو تہ پہ

غارہ کنبس اچوی .

سوال : داسلام نہ خلاف قانون باندیے عمل

کولو خہ حکم دیے ؟

جواب : داسلام نہ خلاف قانون باندیے عمل

کول یا عمل جائز گنرل یا دہغہ قانون د بنہ والی

عقیدہ لرل کفر دیے .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

## الْكَافِرُونَ.

[المائدہ: ۴۴].

ترجمہ: ثوك چه فيصله اونہ كرى پہ هغه خه  
چه الله نازل كرىدے نو دغه كسان هم دوى كافر دى.

اور رسول الله ﷺ فرمائی:

وَمَا لَمْ تَحْكُمُ اٰيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَيَتَخَيَّرُوا  
مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَّا جَعَلَ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

(حسن رواہ ابن ماجہ: ۱۵۶/۱).

ترجمہ: ترخو چه ددوى حکمرانان فيصله پہ  
کتاب الله او هغه احکامو او قوانینو باندے اونہ كرى  
كوم چه الله نازل كرى دى او هغه غوره نه كرى نو  
الله به ددوى پہ مينخ كسب جنگ او جگرے پيدا  
كرى.

سوال: دشيطان دا سوال چه الله چا پيدا كرو

خرنگ رد کرے شی؟

جواب: کله چہ پہ تاسو کنب چاتہ شیطان دا

وسوسہ واچوی نو (أعوذ بالله) دے اووائی.

الله تعالیٰ فرمائی:

وَإِنَّمَا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ  
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

[فصلت: ۳۶].

ترجمہ: اوکہ وسوسہ واچوی تاتہ شیطان خہ

وسوسہ نو پناہ اوغوارہ پہ الله پورے بیشکہ دا الله

اوریدونکے پوہیدونکے دے.

اورسول الله ﷺ مونرتہ د شیطان وسوسہ او

مکر ختمولو دیار تعلیم راکریدے چہ مونرتہ دا دعاء

اووایو:

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ

يَلِدُ وَلَمْ يُوَلَّدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

(مختصراً مما ورد في البخاري ومسلم وحمد

وأبي داود).

ترجمہ: ایمان میں راوید میں یہ اللہ او یہ رسولانو

د اللہ تعالیٰ، اللہ یو دی، اللہ بے نیازہ بے حاجتہ دی، نہ

دده نہ خوک پیدا دی او نہ دی دچا نہ پیدا دی او نہ

دده خوک ہم سیال (او برابر) شتہ.

سوال: د شرك اكبر خه نقصان دی؟

جواب: شرك اكبر سبب دی دپارہ دهمیش

والی د انسان پہ جہنم کنس. اللہ تعالیٰ فرمائی:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

وَمَا وَاةُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.

[المائدہ: ۷۲].

ترجمہ: بیشکہ خوک چہ شرك او کپی د اللہ سرہ

نویقیناً چه حرام کرے دے اللہ پہ ہغہ باندمے جنت او  
 خائے د اوسیدو دده اور دے او نشته ظالمانو دپاره  
 خوك امدادیان .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ .

(مسلم) .

ترجمہ : خوك چه الله سره په داسے حال کنبس  
 مخامخ شو چه الله سره ئے خه شے شریکولو نو دے  
 جهنم ته داخل شو .

سوال : آیا دشرک سره کوم عمل فائده رسوی ؟

جواب : دشرک سره هیخ عمل هم فائده نه

رسوی .

الله تعالیٰ فرمائی :

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

[الأنعام : ۸۹] .

ترجمہ : کہ دوی ( پیغمبرانو علیہم السلام )

شرك کرے وے نو خامخا بہ د دوی عملونہ بریاد

شوی وے .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : اَنَا غَنِي الشُّرَكَاءِ عَنِ

الشُّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ

غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ . ( رواه مسلم : ۴۱۱/۲ ) .

ترجمہ : اللہ تعالیٰ فرمائی : زہ دیرے پرواہ دحصہ

دارانو نہ یم دحصے نہ ، چاچہ خہ عمل او کرو او پہ

ہغے کنبے ئے ما سرہ بل خوک حصہ دار جوہ کرو نو

زہ بہ دہ لہ ددہ حصے سرہ پریدم .

## وہو کے شرک

سوال: وہو کے شرک خہ شے دے؟

جواب: وہو کے شرک ریاء دہ.

اللہ تعالیٰ فرمائی:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا  
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

[الکھف: ۱۱۰].

ترجمہ: شوک چہ دخیل رب سرہ مخامخ کیدو

امید لری نو ہغہ دے نیک عمل اوکری اود خیل رب

پہ عبادت کبن دے بل ہیخ شوک نہ شریکوی.

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ

الرِّيَاءَ.

(صحیح: رواہ احمد: ۴۲۸/۵).

ترجمہ: پہ تاسو باندے چہ زہ د کوم ڊیر خوفناک  
خیز نہ یریرم هغه وړوکے شرک دے یعنی ریا.

اود شرک اصغر دجملے نه دخلقو دا وینا ده چہ: کہ  
الله او فلانے نه وے، یا کہ دالله اوستا خوبنه وی.

حک کہ چہ رسول الله ﷺ فرمائی:  
لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا:  
مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ.

(صحیح رواہ ابوداود: ۳۲۴/۲).

ترجمہ: داسے مه وایی چہ کہ دالله اود فلانی  
خوبنه شی (نو داسے به کیری) بلکه داسے وایی چہ  
کہ دالله خوبنه وی او بیا دفلانی خوبنه وی.

سوال: دالله دنامه نه سیوا دبل چا په نوم قسم  
کول جائز دی؟

جواب : دالله دنامہ نہ سیوا دبل چاہہ نوم قسم

کول جائز نہ دی .

الله تعالیٰ فرمائی :

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ .

[التغابن : ۷] .

ترجمہ : اووایہ ! آو، زما دیے پخپل رب قسم وی،

خامخا بہ تاسو راپور تہ کولے شیء .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ .

(صحیح : رواہ احمد) .

ترجمہ : چاہہ دالله دنامہ نہ سیوا دبل چاہہ نوم

قسم اوکرو نو دہ شرک اوکرو .

پہ بل حدیث کنب فرمائی :

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ .

ترجمہ: ثوك چہ قسم کوونکے وی نو دالله پہ نوم

دے قسم اوکری یادے چپ شی .

(متفق علیہ: بخاری: ۹۸۳/۲، مسلم:

۴۶/۲).



## وسيله اود شفاعت غوښتنه

سوال : الله ته څه شے وسيله كړو؟

جواب : د وسيله بعض اقسام جائز دي او بعض

نور نا جائز دي .

۱ - كومه وسيله چه جائز او مطلوب ده هغه د

الله نومونه او صفتونه او خپل نيك عملونه الله ته

وسيله كول دي .

الله تعالى فرمائي :

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا .

[الأعراف : ۱۸۰] .

ترجمه : د الله تعالى بڼه بڼه نومونه دي نو الله

تعالى په دغه نومونو سره را اوبلي .

اللہ تعالیٰ فرمائی :  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ  
 الْوَسِيلَةَ.

[المائدہ: ۳۵].

ترجمہ: اے ایمان والو! دالہ نہ اوویریری اودے اللہ  
 تہ وسیلہ (نزدے والے) اولتہوی.

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی چہ قتادہ رحمہ اللہ  
 فرمائی دی:

چہ ددے آیت معنی دادہ چہ اللہ تہ نزدے شیء پہ  
 فرمانبرداری اوپہ داسے عملونو سرہ چہ اللہ پرے  
 راضی کیری. (۱۹۳/۱).

اورسول اللہ ﷺ فرمائی :  
 أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ،  
 (رواہ احمد).

ترجمہ: زہ تانہ سوال پہ وسیلہ دھر ہغہ نوم  
باندے چہ ہغہ تالرہ وی.

اود رسول اللہ ﷺ وینا ہغہ صحابی تہ چہ ہغہ د  
رسول اللہ پہ جنت کبں دملگرتیا سوال کرے وو، داوہ  
چہ:

أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

(رواہ مسلم).

ترجمہ: زما سرہ دخپل خان پہ دے سوال قبلیدو  
کبں پہ ڈیرو سجدو سرہ مدد او کرہ. یعنی مانحہ  
سرہ، چہ مونیخ نیک عمل دے.

اود اللہ اود رسول اللہ ﷺ اود نیکانو بندگانو سرہ  
محبت ہم اللہ تہ وسیلہ کولے شی. دا محبت نیک  
عمل دے.

دغہ شان دنیك عمل وسیلہ کیدو دپارہ دلیل

دھغه درے کسانو غار والو قصہ ہم دہ چہ ہغوی

کبن ہریو خپل نیک عمل اللہ تہ وسیلہ کرے وو.

۲ - دوسیلے ناجائزہ طریقہ : مرو تہ چغہ وھل او

دھغوی نہ خپل حاجتوتہ غوبنستل دی . لکہ چہ نن

صبا خلقے کوی . دا ڍیر لوئے شرک دے . اللہ تعالیٰ

فرمائی :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ

وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ .

[یونس : ۱۰۶] .

ترجمہ : چغہ مہ وھہ سیوا داللہ نہ بل داسے شی

تہ چہ نہ تاتہ نفع رسولے شی اونہ ضرر، کہ تا چغہ

اووھلہ نو تہ بہ د ظالمانانو نہ ئے .

۳ - پہ برکت اوپہ طفیل د رسول اللہ ﷺ وسیلہ

کول، لکہ داسے اووائی چہ : اے اللہ ! پہ برکت د

رسول الله ﷺ زما کار او کرے نو دا بدعت دے . حُکھ

چہ داسے دعاء صحابہ کرامو نہ دہ کرے .

بل ددے وجے نہ ہم چہ عمر رضی الله عنه دالله نہ

دعاء غو بنستو دپارہ عباس رضی الله عنه وپراندمے کرو

چہ ژوندیمے وو، اود رسول الله ﷺ دمرگ نہ روستو

ئے رسول الله ﷺ وسیله نہ کرو .

دا وسیله کله دشرک حد ته اور سیربی، په دیمے شان

چہ خلق دا عقیده ساتی چہ الله دپارہ ہم دواسطو او

ذریعو ضرورت شته لکه دبادشاه او حاکم ته د

رسیدو دپارہ واسطو او ذریعو ته ضرورت وی .

دا حُکھ شرک دیمے چہ دلته ئے الله تعالیٰ مخلوقاتو

سره مشابہ کرو .

که ددیمے مسئلے زیات تفصیل اوزیات دلائلو ته

ضرورت وی نو دعلامه البانی صاحب کتاب )

التوسل وأحكامه وأنواعه) ته رجوع او کړی.

سوال: الله تعالى نه غوښتنه کښ د بنده واسطه

ته ضرورت شته دى؟

جواب: نه، د الله تعالى نه غوښتو کښ واسطو

او ذریعو ته ضرورت نشته، الله تعالى فرمائی:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.

[البقره: ۱۸۶].

ترجمه: کله چه تانه تپوس او کړی زما بندگان

زما باره کښ نوزه ډیر نزدی می - داوړیدو او لیدو او

علم په لحاظ سره.

او رسول الله ﷺ فرمائی:

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

(مسلم: ۲/۲۴۶).

ترجمه: بیشکه تاسو هغه ذات رابلی کوم چه

اوریدونکے نزدیے دیے او ہغہ تاسو سرہ دیے (دعلم پہ  
لحاظ سرہ)۔

سوال: آیا دژوندو نہ دعاء غوبنتے شی

جواب: آو، دژوندو نہ دعاء غوبنتے شی، لیکن

د مرو نہ نشی غوبنتے، پہ داسے شان چہ یو ژوندی

نیک سړی ته او وائی چہ ما دیارہ دعاء او کرہ . او سړو

ته داسے نشی وئیلے .

الله تعالیٰ فرمائی:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

[سورہ محمد: ۱۹] .

ترجمہ: ته دخپلے گناه اود مؤمنانو سړو او مؤمنو

بسځو دیارہ بخښنه او غواړه .

او په صحیح حدیث دترمذی (۱۹۳/۲) کښ دی

چہ یو ړند سړی رسول الله ﷺ له راغی او عرض ئے

اوکرو چہ :

أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي .

یعنی : ما دیارہ دعاء اوکرو چہ ما اللہ تعالیٰ جوہ

کری .

سوال : د اللہ تعالیٰ اود بندگانو پہ مینخ کنس د

رسول اللہ ﷺ خہ واسطہ دہ ؟

جواب : در رسول اللہ ﷺ واسطہ صرف د تبلیغ

دہ .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ .

[المائدہ : ۶۷] .

ترجمہ : اے پیغمبرہ (ﷺ!) اور سوہ ہغہ خہ چہ

نازل کولے شی تاتہ د طرفہ درب ستانہ .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائیلی دی :

اللَّهُمَّ اشْهَدُ

ایے اللہ! تہ گواہ اوسہ .

کلہ چہ صحابہ کرام و رسول اللہ ﷺ تہ

اوفرمائیل:

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ .

ترجمہ: مونہ گواہی کوو چہ تارسالت

اورسولو .

(مسلم) .

سوال: د پیغمبر ﷺ شفاعت دچا نہ غوارو؟

جواب: در رسول اللہ ﷺ شفاعت د اللہ تعالیٰ نہ

غواری .

اللہ تعالیٰ فرمائی:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا .

[الزمر: ۴۴] .

ترجمہ : اووایہ چہ شفاعت تہول اللہ لره دے .

اور رسول اللہ ﷺ یو صحابی تہ دا بنودلی وو چہ

ہغہ داسے اووائی

اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ .

ترجمہ : اے اللہ ! زما بارہ کبں در رسول اللہ ﷺ

شفاعت قبول کرے .

(حسن صحیح : رواہ الترمذی : ۳۹۷/۱) .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائیلی دی :

إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ

مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا .

(رواہ مسلم) .

ترجمہ : ما خپلہ دعاء پتہ ساتلے دہ دپارہ دشفاعت

پہ ورخ دقیامت باندمے دہغہ چا دپارہ چہ ہغہ مر

شومے وی زما دامت نہ پہ داسے حال کبں چہ اللہ سرہ

ھیخ خیز نہ شریکوی .

سوال : آیا دژوندونه شفاعت غوښتل جائز

دی؟

جواب : آو، دژوندونه شفاعت غوښتل جائز

دی په داسه خیزونو کښ چه دهغوی په طاقت او

قدرت کښ وی .

الله تعالیٰ فرمائی :

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا

وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا .

[النساء : ۸۵] .

ترجمه : چاچه یو نیک سفارش او کړونو ده دپاره

به دهغه دنیکی حصه وی، او چاچه بد سفارش

او کړونو ده دپاره به دهغه دبدی یوه حصه وی .

اورسول الله ﷺ فرمائی :

إِشْفَعُوا تُؤَجَّرُوا.

(صحیح ابوداؤد: ۳۹۷/۱).

ترجمہ: سفارش اوکری اود الله اجر او ثواب

حاصل کری.

سوال: آیا در رسول الله ﷺ پہ صفت کبیر دحد

نه تیریدلے شو؟

جواب: نه، در رسول الله ﷺ پہ صفت کبیر

زیاتے کول اود حد نه تیریدل نه دی پکار.

الله تعالیٰ فرمائی:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ

إِلَهُ وَاحِدٌ.

[الكهف: ۱۱۰].

ترجمہ: اووایه چه بیشکه زه ستاسو غوندے

انسان یم خودا فرق دے چه ماته وحی کیری چه

ستاسو دعبادت لائق (حاجت روا مشکل کشا)  
صرف یو الله دے .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنِ  
مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

ترجمہ : زما پہ صفت کبں زیاتے مه کوی (دحد نہ

مه تیریری) لکه خنگه چه نصاری دعیسی ابن

مریم (علیه السلام) پہ صفت کبں زیاتے

کرے وو، بیشکه زه خو بنده یم، نو تاسو راته دالله

بندہ اودهغه رسول وایی .

(رواه البخاری : ۱/۴۹۰) .



## جہاد، دوستی او فیصلہ

سوال : د الله په لار کښ د جهاد څه حکم دے ؟  
 جواب : جہاد په مال او په ځان او په ژبه فرض  
 دے .

الله تعالیٰ فرمائی :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .  
 [التوبه : ۴۱] .

ترجمه : لار شى او څى سپك او درانه او جهاد  
 او كړى په لاره د الله كښ په خپلو مالونو او په  
 ځانونو .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
وَالسِّنَتِكُمْ.

(صحیح رواہ ابو داود : ۳۳۹/۱).

ترجمہ : مشرکانو سرہ دخیلو مالونو او خانونو  
اود خیلو ژبو پہ ذریعہ جہاد او کریئ.

سوال : دوستی خہ تہ وائی ؟

جواب : دوستی مینے محبت او مدد تہ وائی .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .

[التوبہ : ۷۱].

ترجمہ : مؤمنان سہری او مؤمنانہ بنسخے دیو بل  
دوستان دی .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا .

(رواہ البخاری : ۳۳۱/۱، و مسلم : ۳۲۱/۲) .

ترجمہ : یو مؤمن د بل مؤمن د پارہ د دیوال پہ شان

دے چہ یو بنختہ پہ بلہ باندے مضبو طیری .

سوال : آیا کفارو سرہ دوستی اود هغوی مدد

کول جائز دی ؟

جواب : نه، دکفارو سرہ دوستی کول اود هغوی

مدد کول جائز نه دی . اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ .

[المائدہ : ۵۱] .

ترجمہ : پتاسو کنب چہ خوک ددوی سرہ دوستی

اوکری نو پہ تحقیق سرہ هغه ددوی نه (حساب)

دے :

اور سول اللہ ﷺ فرمائی :

اِنَّ اَالَ بَنِي فُلَانٍ لَّيُسُوْا بِاَوْلِيَائِيْ .

(صحیح رواہ احمد : ۲۰۳/۴) .

ترجمہ : بیشکہ آل دبنی فلان (چہ زما رشتہ داران دی) زما دوستان نہ دی (حککہ چہ کافران دی) .

سوال : ولی خوڪ دے ؟

جواب : پرهیزگار مؤمن ولی دے . اللہ تعالیٰ

فرمائی :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ .

[یونس : ۶۲، ۶۳] .

ترجمہ : خبردار ! بیشکہ د اللہ تعالیٰ پہ دوستانو

بہ نہ ویرہ وی اونہ بہ دوی غمزن شی ، دا ولیان ہغہ

کسان دی چہ ایمان ئے راوریدے او پرهیزگارہ خلق

دی .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

إِنَّمَا وَلِيُّ اللَّهِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

ترجمہ: بیشکہ زما دوست اللہ دے او نیک عملہ

مؤمنان دی .

(صحیح، رواہ احمد : ۲۶۳/۲).

سوال : مسلمانان بہ پہ خہ فیصلہ کوی ؟

جواب : مسلمانان بہ پہ قرآن او پہ صحیح

احادیثو فیصلہ کوی .

اللہ تعالیٰ فرمائی :

وَأَنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

ترجمہ: او فیصلہ او کرہ دخلقو ترمینح پہ ہغہ

خہ چہ اللہ نازل کرے دے .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

عِبَادِكَ .

(رواه مسلم).

ترجمہ: اے پوہیدونکیہ پہ پتہ او بنکارہ باندے!  
تہ فیصلہ کوئے دخپلو بندگانو ترمینحہ.



## پہ قرآن او حدیث باندمے عمل

سوال : الله تعالى قرآن خہ دپاره نازل کریمے دے ؟

جواب : الله تعالى قرآن کریم دعمل دپاره نازل

کریمے دے .

الله تعالى فرمائی :

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ.

[الأعراف : ۳].

ترجمہ : تابعداری او کرپی دہغه خیز چہ تاسو ته

نازل کریمے شویمے دے ستاسو دزب دطرفہ .

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَكُلُوا بِهِ.

(صحیح، رواہ احمد).

ترجمہ: قرآن کریم لولیٰ، عمل پرے کویٰ او  
خوراک وریاندے مه کویٰ.

سوال: پہ صحیح احادیثو باندے عمل کول خہ  
حکم لری؟

جواب: پہ صحیح احادیثو باندے عمل کول  
فرض دی.

الله تعالیٰ فرمائی:  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا.

[الحشر: ۷].

ترجمہ: کوم حکم چہ درتہ پیغمبر (ﷺ) درکوی  
نو هغه اخلیٰ، او چہ دکوم خیز نہ مو منع کویٰ  
هغه نہ منع شیء.

اورسول الله ﷺ فرمائی:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ  
الْمُهَدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا.

(صحیح رواہ احمد: ۱۲۶/۱).

ترجمہ: تاسو زما سنت اود خلفاء راشدینو سنت  
چہ ہغوی ہدایت موندونکی دی لازم اونیسے او  
پہ ہغے باندے منگولے اولگوی.

سوال: آیا پہ قرآن سرہ دا احادیثو نہ ے پرواہ  
کیدے شو؟

جواب: نہ. پہ قرآن سرہ دا احادیثو نہ نشوے  
پرواہ کیدے.

اللہ تعالیٰ فرمائی:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ  
إِلَيْهِمْ.

[النحل: ۴۴].

ترجمہ : مونبر تاتہ قرآن نازل کرو دے دپارہ چہ تہ  
 خلقو تہ بیان کرے ہغہ خہ چہ دے خلقو تہ نازل  
 کرے شوی دی .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

أَلَا إِنِّي أُوتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

(صحیح رواہ ابو داود : ۲۷۶/۲) .

ترجمہ : خبردار ! ماتہ قرآن را کرے شویدے اودے  
 قرآن سرہ د قرآن غوندے نور خہ (چہ حدیث دی)  
 ہم را کرے شوی دی .

سوال : آیا د الله اود رسول ﷺ پہ خبرو باندے د

بل چا خبرہ وړاندے کولے شو ؟

جواب : د الله اود رسول ﷺ پہ خبرو

باندے د بل چا خبرہ نہ شو وړاندے کولے .

الله تعالیٰ فرمائی :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ.

[الحجرات : ۱].

ترجمہ : اے ایمان والو! د اللہ اود هغه درسول نه  
مه وړاندې كېږئ.

اور رسول الله ﷺ فرمائی :

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

(صحيح، رواه الطبرانی).

ترجمہ : دخالق په زفرمانی كېن دمخلوق خبره

منل نشته.

ابن عباس - رضی اللہ عنہما - فرمائی :

أَخْشَى أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ،

أَقُولُ لَكُمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُونَ : قَالَ

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

(رفع الملام: ۳۲، فتح المجید: ۳۸۳، الدین

الخالص: ۴۶/۲).

ترجمہ: زہیریرم چہ چرتہ دریاندمے د آسمان نہ

دکانرو باران اونشی، حکہ زہ تاسو تہ وایم چہ رسول

الله ﷺ فرمائیلی دی، او تاسو وایی چہ ابو بکرؓ او

عمرؓ وئیلی دی.

سوال: کله چہ زمونز پہ یوہ مسئلہ کبے

اختلاف راشی نو مونز بہ خہ کوو؟

جواب: قرآن کریم او صحیح احادیثو تہ بہ

رجوع کوئی.

الله تعالیٰ فرمائی:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

[النساء: ۵۹].

ترجمہ: کہ تاسو اختلاف اوکړئ په یو شی کښ  
 نو هغه اختلافی خبره دالله کتاب اود رسول الله ﷺ  
 حدیث ته وړاندې کړئ، که چرې تاسو ایمان راوړم  
 وی په الله او په ورځ د آخرت باندې، دا کار غوره اود  
 انجام په لحاظ سره ډیر ښه دے.

اور رسول الله ﷺ فرمائی:  
 عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ  
 الْمُهَدِّدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا.  
 (صحیح رواه احمد: ۱۲۶/۱).

ترجمہ: تاسو زما سنت اود خلفاء راشدینو سنت  
 چه هغوی هدایت موندونکی دی لازم اونیسی او  
 په هغه باندې منگولے اولگوی.

سوال: د الله اود رسول الله ﷺ سره به محبت

ڇنگه ڪو و؟

جواب : د الله تعالى اود رسول الله ﷺ سره

محبت دهغويءِ په فرمانبرداريءِ او دهغويءِ دحڪم په

تابعداريءِ سره به ڪوؤ .

الله تعالى فرمائي :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

[ آل عمران : ۳۱ ] .

ترجمه : ورته اووايه (امه زما حبيبه) ! كه چرمه

تاسو دالله سره محبت ڪول غواڙيءِ نوزما تابعداريءِ

او ڪڙيءِ نو الله به تاسو سره محبت او ڪڙيءِ او تاسو ته

به ستاسو گناهون به او بخڻي ، او الله بخڻونڪه

مهريانه ڏيمه .

اور رسول الله ﷺ فرمائي :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ  
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

(متفق عليه: بخاری: ۷/۱، مسلم: ۴۹/۱).

ترجمه: هیخوک په تاسو کښ تر هغه وخته  
پورے مؤمن کیدے نشی تر خو چه زه ورته دخپل  
اولاد اود پلار اود ټولو خلقو نه زیات محبوب نشم.  
سوال: آیا عمل پریدو او په قدر (تقدیر) عمل  
اوکړو؟

جواب: نه، عمل مه پریدی، ځکه چه الله  
تعالی فرمائی:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ  
فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. [اللیل: ۷].

ترجمه: پس چاچه ورکړه اوکړه اود الله نه اویریده  
اود نیکی تصدیق ئے اوکړلو نوزردے چه مونږ به

آسان کرو دہ پارہ بنہ حالت .

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی :

اعْمَلُوا فِكْلٌ مُّيسِّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ .

(رواہ البخاری و مسلم : ۷۳۸/۲) .

ترجمہ : عمل کوئی حُک کہ کوم کس چہ د خہ دیارہ

پیدا کرے شوے دے دھغے دیارہ ورتہ توفیق ورکولے

شی .



## سنت او بدعت

سوال: آیا دین کبش بدعت حسنه ہشتہ؟

جواب: نہ، پہ دین کبش بدعت حسنه ہشتہ.

اللہ تعالیٰ فرمائی:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

[المائدہ: ۳].

ترجمہ: نن ورخ ما پورہ کرو تاسو دپارہ دین

ستاسو او پورہ مے کرو پتاسو باندے نعمت خیل

او غورہ مے کرو تاسو دپارہ دین اسلام.

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

(صحیح، رواہ احمد).

ترجمہ: ہر بدعت گمراہی دہ او ہرہ گمراہی بہ

پہ اور کنب وی

سوال: پہ دین کنب بدعت خہ شے دے؟

جواب: پہ دین کنب د خآنہ زیاتے یا کمے کولو

تہ بدعت وائی

اللہ تعالیٰ فرمائی:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ  
يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.

[الشوری: ۳]

ترجمہ: آیا دوی دپارہ شریکان دی چہ ایجاد کرے

ئے دے دوی دپارہ داسے دین چہ اللہ دہغے اجازت نہ

دے کرے

اور رسول اللہ ﷺ فرمائی:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

ترجمہ: چاچہ زمون پر پہ دے دین کبں داسے شے  
پیدا کرو کوم چہ ددے دین نہ نہ وی نو ہغہ مردود  
دے۔

سوال: آیا پہ دین کبں سنت حسنہ شتہ دے؟  
جواب: آو، پہ اسلام کبں سنت حسنہ شتہ  
دے۔

رسول اللہ ﷺ فرمائی:  
مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا  
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ  
مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا.  
(رواہ البخاری).

ترجمہ: چاچہ ظاہرہ کرہ پہ اسلام کبے یوہ بنہ  
طریقہ (چہ درسول اللہ ﷺ نہ ثابتہ وی) نو دہ دیارہ  
دہغے اجر دے، او دہغہ چا اجر ہم دے چاچہ پرے

عمل او کړو (پس د ظاهر کولو دده نه) بغير د کمولو  
داجرونو د دوی نه.

سوال : مسلمانان به په دشمنانو د اسلام کله  
برې موندې شي ؟

جواب : کله چه مسلمانان په خپلو ځانونو او  
په امت مسلمه باندې د الله کتاب اود محمد رسول  
الله ﷺ احاديثو تطبيق کولو او نافذولو طرفته  
رجوع او کړې، اود الله توحيد په خلقو کښ خورول  
شروع کړې، اود شرك او بدعت نه ځان اوساتي، اود  
خپل طاقت مطابق د دشمن مقابلې دپاره دوخت  
مناسب اسلحه تياره کړې.

الله تعالیٰ فرمائی :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ  
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

[محمد: ۷].

ترجمہ: اے ایمان والو! کہ تاسو دالله (ددین) مدد اوکری نو الله به ستاسو مدد اوکری او ستاسو قدمونه به مضبوط کری. بیا الله تبارک و تعالیٰ مهربانی کوی.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا.

[النور: ۵۵].

ترجمہ: الله تعالیٰ وعده کریده تاسو نه هغه کسانو سره چه هغوی ایمان راو پریدے او نیک عمل ئے کرے دے چه خامخابه زه دوی ته په زمکه



## دعاء مستجاب

رسول اللہ ﷺ فرمائی: ہیش یو مسلمان داسے  
 نشته چہ ہغہ تہ خہ غم یا تکلیف اورسی او ہغہ دا  
 دعاء اووائی مگر اللہ بہ ترمے دا غم او تکلیف لرمے  
 کری:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أُمَّتِكَ  
 ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَا ضُفِّي حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِي  
 قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ  
 نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا  
 مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ  
 عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ  
 صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي .

(صحیح رواہ احمد، مشکوٰۃ : ۱/۶۱۲) .

